



”ا بلال! مجھ اپنا و عمل بتلاؤ جو تم نہ اسلام میں سب سے زیادہ امید والا کیا“

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ا بلال! مجھ اپنا و عمل بتلاؤ جو تم نہ اسلام میں سب سے زیادہ امید والا کیا، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی“ انہوں نے عرض کیا: میں نے کوئی عمل اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا نہیں کیا کہ میں نے رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی وضو کیا تو اس وضو سے اتنی نماز ضرور پڑھی جتنی میرے مقدر میں لکھی تھی۔
[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، تو آپ نے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”مجھ اپنا سب سے زیادہ امید والا و نفلی عمل بتاؤ جو تم نہ اسلام میں کیا؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی“ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی عمل نہیں کیا کہ جب بھی میں رات یا دن کی کسی گھڑی میں بے وضو ہوا تو میں نے وضو کر لیا، اور پھر اس وضو سے اتنی نفل نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں لکھی تھی۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65849>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

